



## سوال

(495) چاند گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

پچھلے دونوں ماہ جون میں چاند گرہن لگا، جورات گیا رہ جسے صحیح چاہیجے تک جاری رہا، پورا چاند گرہن کی پیٹ میں آگیا حتیٰ کہ اندھیرا ہو گیا، حاملہ خواتین چلتی پھرتی رہیں، مبادا ان کا حمل ضائع ہو گئے، اس سلسلہ میں عورتوں کو ہدایات دی جاتی رہیں، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ نیز بتائیں کہ چاند یا سورج گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے؟

## الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، آما بعد!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ کے نخت جگر حضرت ابراہیم فوت ہو گئے، اتفاقاً اس دن سورج کو گرہن لگ گیا تو لوگوں میں یہ خیال ہمہ لیئے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نخت جگر کی وفات کی بنا پر سورج بے نور ہوا ہے۔ اس وقت آپ نے لوگوں کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا: "سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونوں نیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لجاجب تم یہ حالت دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔" [1]

سورج یا چاند کے گرہن کے وقت درج ذیل باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے:

اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و اذکار کا خاص اہتمام کیا جائے۔ صلوٰۃ کسوف کا اہتمام کیا جائے۔

گرہن صاف ہونے تک نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ خیرات کی جائے۔

یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہیں [2]

باقی رہا حاملہ خواتین کے حمل ضائع ہونے کا اندیشه، یہ خواتین کی طرف سے خود ساختہ پابندیاں ہیں، احادیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس قسم کی باتوں پر کان نہیں دھرنा چاہیے۔ یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جن باتوں کا گرہن کے وقت اہتمام کرنا چاہیے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اور جن باتوں کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین!

[1] صحیح بخاری، الحکوف : ۱۰۲۔



جعفرية البحرينية الإسلامية  
محدث فتوی

سچ بخاری، الحکوف: ۱۰۲۳ [۲]

هذا عندی والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد 4۔ صفحہ نمبر: 435

محمد فتوی